



احسان عادل اور محمد اصغر پاکستان شاہینز کے اسکواڈ میں شامل

- عمران بٹ، ساجد خان اور محمد عرفان خان بھی اسکواڈ کا حصہ بن گئے
- عاکف جاوید، حیدر علی، محمد محسن، سیف بدر اور عمر خان فرنچائز کے ساتھ مصروفیات کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں رہے
- ناردرن کے اسکواڈ میں بھی ایک تبدیلی کردی گئی

لاہور، 12 فروری 2020ء:

پاکستان شاہینز اور مارلی بون کرکٹ کلب کے خلاف ایک روزہ میچ 16 فروری کو کھیلا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان شاہینز کے اسکواڈ میں 5 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں شریک کھلاڑیوں کی متعلقہ فرنچائز کے ساتھ مصروفیات کے سبب پاکستان شاہینز کے اسکواڈ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق عاکف جاوید، حیدر علی، محمد محسن، سیف بدر اور عمر خان کی جگہ احسان عادل، محمد اصغر، عمران بٹ، محمد عرفان خان اور ساجد خان کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مارلی بون کرکٹ کلب کے خلاف 12 رکنی اسکواڈ کی قیادت سعود شکیل کر رہے ہیں۔

ابتدائی اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کے متبادل کی حیثیت سے ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔

اسکواڈ میں طلب کیے گئے احسان عادل نے قائد اعظم ٹرافی میں سنٹرل پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے حالیہ سیزن کے 9 فرسٹ کلاس میچوں میں 32.67 کی اوسط سے 18 وکٹیں حاصل کیں۔ اسی طرح عمران بٹ نے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 9 فرسٹ کلاس میچوں میں 934 رنز بنائے۔

آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے محمد عرفان خان کو بھی پاکستان شاہینز کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ 17 سالہ نوجوان کرکٹر نے ستمبر 2019 میں اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں بھی پاکستان کی نمائندگی

کی تھی۔ حالیہ ڈومیسٹک سیزن کے دوران محمد عرفان خان نے 10 نان فرسٹ کلاس میچوں میں 475 رنز بنائے تھے۔

بائیں ہاتھ کے اسپنر محمد اصغر نے 8 فرسٹ کلاس میچوں میں بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 27 وکٹیں حاصل کیں جبکہ خیبر پختونخوا کے ساجد خان نے 6 میچوں میں 25 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی تھی۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے دونوں اسپنرز کو پاکستان شاہینز کا حصہ بنالیا گیا ہے۔

دوسری طرف مارلی بون کرکٹ کلب اور ناردرن کے درمیان میچ 17 فروری کو ایچسن کالج میں کھیلا جائے گا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل فرنچائز کے ساتھ مصروفیت کے باعث ناردرن کے اسکواڈ میں بھی ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ موسیٰ خان کی جگہ منیر ریاض کو اسکواڈ کا حصہ بنالیا گیا ہے۔ نوجوان کرکٹر نے قومی انڈر 19 تین روزہ ٹورنامنٹ کے 6 میچوں میں 14 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

اسکواڈ:

پاکستان شاہینز:

سعود شکیل، کپتان (سندھ)، احسان عادل (سنٹرل پنجاب)، حسن محسن (سندھ)، عمران بٹ (بلوچستان)، عمران رفیق (سدرن پنجاب)، محمد عرفان خان (سنٹرل پنجاب سیکنڈ الیون)، محمد اصغر (بلوچستان)، عمیر بن یوسف (سندھ)، روحیل نذیر، وکٹ کیپر (ناردرن)، ساجد خان (خیبر پختونخوا)، ثمین گل (خیبر پختونخوا) اور ذیشان ملک (ناردرن)۔

ناردرن:

روحیل نذیر، کپتان (وکٹ کیپر)، فیضان ریاض (نائب کپتان)، علی عمران، حیدر علی، مبشر خان (انڈر 19)، منیر ریاض (انڈر 19)، نعمان علی، سرمد بھٹی، شہزاد اعظم، شیراز خان (انڈر 19)، زید عالم اور ذیشان ملک۔

شیڈول:

14 فروری: ایم سی سی بمقابلہ لاہور قلندرز بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور بوقت شام 5 تا رات 8:10 بجے (بیس اوورز پر مشتمل میچ)
16 فروری: ایم سی سی بمقابلہ پاکستان شاہینز بمقام ایچسن کالج لاہور بوقت صبح 9:30

تا شام 5:15 بجے (پچاس اوورز پر مشتمل میچ)
17 فروری : ایم سی سی بمقابلہ ناردرن بمقام ایچیسن کالج لاہور بوقت دوپہر 12:30 تا سہ
پہر 3:40 بجے (بیس اوورز پر مشتمل میچ)
19 فروری : ایم سی سی بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام ایچیسن کالج لاہور بوقت دوپہر 12:30
تا سہ پہر 3:40 بجے (بیس اوورز پر مشتمل میچ)

برائے رابطہ:

رضا کیچلو، 03018440280
احسن افتخار ناگی، 03040557586

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4

